

Press Release

January 22, 2018

For immediate release

مائیکرو انشورنس کے لئے نادرا کی تصدیقی فیس میں کمی

اسلام آباد (جنوری 22) نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) نے، مالیاتی شمولیت کے فروغ کی قومی پالیسی کے تحت قائم بیمہ کے شعبے کے ٹیکنیکل کمیٹی کے سفارش پر، مائیکرو انشورنس پالیسیوں کی تصدیق کے لئے، تصدیق کی فیس میں کمی کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ بیمہ پالیسی کی تصدیق کی فیس میں کمی ان تمام پالیسیوں کے لئے ہوگی جو کہ موبائل فون، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل اور نان ڈیجیٹل طریقے سے فروخت کی جائیں گی۔

نادرا کی تصدیقی فیس میں کمی سے مائیکرو انشورنس پالیسیوں کے پرمیٹیم میں بھی کمی واقع ہوگی اور کم آمدنی والے افراد کے لئے پالیسی کے حصول کو آسان ہو جائے گا۔ نادرا کی جانب سے بیمہ کی تصدیقی فیس میں کمی قومی مالیاتی شمولیت کی پالیسی کے مقاصد کے حصول کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔

حکومت کی جانب سے تمام حلقوں کے عوام کو مالیاتی سہولتوں جیسے کہ بینکنگ، انشورنس اور سرمایہ کاری کے مواقع کی زیادہ سے زیادہ دستیابی کے لئے مالی وسائل میں شمولیت کی قومی پالیسی (National financial inclusion Strategy) جاری کی گئی۔ اس قومی پالیسی پر عمل درآمد کے لئے ایک کونسل قائم کی گئی ہے جس کی صدارت وفاقی وزیر خزانہ کرتے ہیں جب ایک اس سلسلے میں ایک سٹرننگ کمیٹی بھی قائم ہیں جس کی صدارت سٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں۔ اس سٹرننگ کمیٹی کے تحت سات تکنیکی کمیٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں جن میں سے ایک اہم کمیٹی تکنیکی کمیٹی برائے انشورنس ہے جس کی سربراہی ایس ای سی پی اور انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان مشترکہ طور پر کرتے ہیں۔

انشورنس کے شعبے کی اس تکنیکی کمیٹی کی جانب سے مائیکرو انشورنس کی فروغ کے لئے اس شعبے کا جائزہ لیا گیا۔ بیمہ کے شعبے کے جائزہ میں سامنے آیا کہ بیمہ پالیسیوں کے لئے نادرا کی تصدیقی فیس ایک اہم جڑ ہے جس کا اثر پالیسی کے پرمیٹ پر پڑتا ہے اور اس کی وصولی بیمہ پالیسی ہولڈر سے وصول کی جاتی ہے۔

کمیٹی کی جانب سے نادرا کی فیس کا مسئلہ نادرا کی انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا گیا اور ان سے قومی پالیسی کے مطابق اس میں کمی کی تجویز دی گئی۔ نادرا کی انتظامیہ تصدیقی فیس میں نمایاں کمی کرنے پر اضا مند ہو گئی۔ اور یہ طے پایا کہ نادرا فی تصدیق دس روپے وصول کرے گا۔